



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد



اہل سنت و جماعت کا حصیرہ

تألیف

شیخ محمد بن صالح العثيمین رحمه اللہ



وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
وكالة المطبوعات والبحث العلمي

المكتبة الإلكترونية الإسلامية

Islamic Electronic Library



أكثر من ... ٣٠٠٠ صادرة مقرئه ومسنوعه ومترجمة بـ٤٦ لغة
More than 3000 readable, audible, and visual materials in 46 languages



تم تحميل الكتاب من موقع
المكتبة الإلكترونية الإسلامية

The book had been downloaded from
Islamic Electronic Library site

www.islamic-ebook.com

islamic.ebook@moia.gov.sa

وزارتِ اسلامی امور و دعوت و ارشاد

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ

تألیف

شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ

ترجمہ

حافظ عبدالرشید اظہر

نظر ثانی

شیخ اسد اللہ عثمان مدنی

وزارت کے شعبہ مطبوعات و علمی تحقیقات کی زیر نگرانی مطبع شدہ

۱۴۳۸ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقدیم

از سماحتہ اشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازر حمدہ اللہ

الحمد للہ وحدہ والصلوٰۃ والسلام علی من لابی بعده
وعلی آلہ وصحبہ، اما بعد!

میں عقیدے کی اس قابل قدر اور مختصر کتاب پر مطلع ہوا جسے ہمارے
بھائی فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین نے جمع کیا ہے میں نے پوری
کتاب سنی تو اسے توحید باری تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات ملائکہ کتبے
سماویہ رسول اللہ، یوم آخرت اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان کے ابواب میں
اہل السنۃ الجماعتہ کے عقائد کا بڑا شاندار مجموعہ پایا بلاشبہ مصنف نے بڑی
عدمگی سے اسے جمع کیا اور کار آمد بنایا اس میں وہ تمام مسائل جمع کردیئے
ہیں جو ایک طالب علم اور عام مسلمانوں کو اللہ کی ذات، اس کے فرشتوں،

کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان کے سلسلے میں درپیش ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بعض ایسی بے حد مفید باتیں بھی ذکر کردی ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے اور وہ عقیدے کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے اور مزید علم و ہدایت نصیب فرمائے، اس کتاب کو اور ان کی دیگر تمام مولفات کو نافع و مفید بنائے۔

اللہ تعالیٰ مؤلف محترم کو، ہمیں اور ہمارے تمام بھائیوں کو حق و صواب کی طرف رہنمائی کرنے والے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے جو علی وجہ ال بصیرۃ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، بیشک وہ سننے والا قریب ہے۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مقدمة از مؤلف

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا
عدوان الا على الظالمين، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا
شريك له البشك الحق الببين ، وأشهد ان محمدًا عبده
ورسوله خاتم النبيين وامام المتقين ، صلى الله عليه وعلى
آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ، اما بعد !

اللہ رب العزت نے اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کو ہدایت اور
دین حق کے ساتھ تمام اہل جہان کیلئے رحمت عمل کرنے والوں کیلئے نمونہ
اور لوگوں پر حجت بنا کر میبووث فرمایا، آپ ﷺ کی ذات گرامی اور آپ
پر نازل کردہ کتاب و حکمت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بیان فرمادیا
جس میں بندوں کیلئے بھائی اور ان کے دینی و دنیوی امور کی استقامت ہے،

جیسے صحیح عقائد، درست اعمال، عمدہ اخلاق اور بلند پایہ آداب وغیرہ۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روشن اور صاف راستہ پر چھوڑ کر گئے ہیں، جس کی رات بھی دن کی طرح (روشن) ہے، صرف ہلاکت اختیار کرنے والا شخص ہی راستہ سے بھٹک سکتا ہے۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد اس راستے پر گامزن رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، وہ صحابہ کرام، تابعین عظام کی تمام مخلوق میں چیزہ و برگزیدہ جماعت تھی اور وہ لوگ جنہوں نے خوش اسلوبی سے ان کی پیروی کی، شریعت کو لے کر اٹھے، سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھا، عقیدہ، عبادت اور اخلاق اور آداب میں اسے پوری طرح اپنا یا اور یہی حضرات وہ مبارک جماعت قرار پائے جو ہمیشہ سے حق پر قائم ہے، ان کی مخالفت کرنے والے اور انہیں رسوا کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تا آنکہ قیامت برپا ہو جائے گی اور وہ اسی شریعت پر رواں دوال ہوں گے۔

اور ہم بھی الحمد للہ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان کے طرز

عمل کو۔ جس کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ اپنائے ہوئے ہیں، ہم تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنے کیلئے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہر مؤمن کو اس طریقے کا رہنمایا ضروری ہے۔

ہم اللہ کے حضور دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو دنیا و آخرت میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، بلا شبہ وہ بہت نوازشیں فرمانے والا ہے۔

میں نے اس موضوع کی اہمیت اور عقیدے کے بارے میں لوگوں کی منتشر اور متفرق خواہشات کے پیش نظر بہتر سمجھا کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ جس پر ہم عمل پیرا ہیں بالاختصار قلمبند کروں، اور عقیدہ اللہ رب العزت اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روزِ قیامت اور تقدیر کی بھلائی و برائی پر ایمان لانے کا نام ہے۔

میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کام کو خالصہ اپنی ذات کیلئے کرنے کی توفیق بخشدے، اسے پسندیدہ اعمال کے مطابق بنائے اور اپنے بندوں کیلئے سودمند کرے، آمین یا رب العالمین۔

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ

فصل اول:

ہمارا عقیدہ

اللہ عزوجل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر کی براہی بھلائی پر ایمان لانا۔

اللہ پر ایمان مفصل کا بیان

پس ہم اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی صرف وہی پالنے والا، پیدا کرنے والا، بادشاہ (ہرشے کامال) اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔

اور ہم اللہ تعالیٰ کی الוהیت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی صرف وہی معبد برحق ہے، اس کے علاوہ ہر معبود باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر بھی ہمارا ایمان ہے، یعنی اچھے سے اچھے نام سب اسی

کیلئے ہیں اور ان اوصاف میں اس کی وحدانیت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ
وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّاً؟﴾ سورہ مریم: ۶۵

وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پور دگار ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، کیا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟

ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذْهُ سَيَّةٌ وَلَا
نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَمَّنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ طَيْعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَۚ وَلَا يَئُودُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ سورۃ البقرہ:

اللہ (ہی معبود برق ہے) اس کے سوا کوئی عبادت کے لا اق نہیں، زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا، اسے نہ او نگھ آتی ہے اور نہ نیست، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے رو برو (ہور ہا ہے) ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے (ہو چکا) ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اسی قدر معلوم کر ادیتا ہے) اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور اسے ان کی حفاظت و شوار نہیں اور وہ بڑا بلند و بالا اور صاحب عظمت ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ۲۲ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَۚ الْمَلِكُ

الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ ط
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ۚ ۳۳ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ ۳۴ ﴿۲۲﴾ سورۃ الحشر: ۲۲ تا ۲۴

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبد (برحق) نہیں، پوشیدہ اور ظاہر
کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے
سو اکوئی لاکھ عبادت نہیں، (حقیقی) بادشاہ (ہر عیب سے) پاک ذات،
ساملم، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا، لوگ جو شریک
مقرر کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ وہی اللہ (تمام مخلوقات کا) خالق،
ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، سب اچھے سے اچھے نام اسی
کے ہیں، آسمانوں میں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی
ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کیلئے ہے، ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ طَيْهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا ثَوَّابُهُ لِمَنْ يَشَاءُ الَّذِي كُوَرَ ۝ أَوْ يُزِّوِّجُهُمْ ذُكْرًا نَّا ثَوَّابُهُ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيقَيْمًا طَيْهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ۝﴾ سورۃ الشوریٰ ۵۹۔ ۵۰

جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ یا ان کو بیٹیاں اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بلاشبہ وہ جانے والا اور قدرت والا ہے۔

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ طَرَفَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ سورۃ الشوریٰ ۱۱۔ ۱۲

اسی جیسی کوئی چیز نہیں اور خوب دیکھنے والا، سننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ

کر دیتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے، بیشک وہ ہرشے سے واقف ہے۔

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ:

﴿وَمَا مِنْ ذَبَابٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا طَكْلٌ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ سورة الہود: ۶
ز میں پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔

اور وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے
اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں (لکھا ہوا) ہے۔

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ طَوْ وَيَعْلَمُ
مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ طَوْ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُّبِينٍ﴾ سورة الانعام: ۵۹

اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے خشکی اور سمندر کی تمام چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتا نہیں جھپڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندر ہیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوچی چیز نہیں مگر وہ کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَاءً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا يَأْتِي أَرْضٌ تَمُوتُ﴾ سورۃلقمان: ۳۲

بلاشبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی (ما یوں کے بعد) میں برساتا ہے، اور جو کچھ (حاملہ کے) رحم میں ہے اس کی حقیقت کو وہی جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کچھ کرے گا اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سر زمین میں اسے موت آئے گی۔

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ:

اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے اور جیسے چاہے کلام کرتا ہے:

وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿٦٣﴾ سورۃ النساء: ۱۶۳

اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ لَا﴾

سورۃ الاعراف: ۱۲۳

اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر (کوہ طور پر) آئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام فرمایا۔

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الظُّورِ الْأَمْمَنِ وَقَرَبَنَاهُ نَجِيًّا ﴽ۵۲﴾ سورۃ مریم: ۵۲

اور ہم نے ان کو طور کی دائمیں جانب سے پکارا اور سرگوشی کرنے کیلئے قریب بلا یا۔

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ:

﴿لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ

آنَ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّيٌّ ﴿١٠٩﴾ سورۃ الکھف:

اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لئے سیاہی ہو تو قبول اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے۔

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَجْهُرٌ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ سورۃ لقمان: ۲۷

اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب) قلم ہوں اور سمندر (کا تمام پانی) سیاہی ہو، اس کے بعد سات سمندر اور (سیاہی) ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

اللہ کے کلمات خبروں میں صداقت، احکام میں عدل و انصاف اور باتوں میں حسن و جمال کے اعتبار سے تمام کلمات سے بڑھ کر اکمل و اتم ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ سورۃ الانعام: ۱۱۵

اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔

نیز فرمایا:

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ سورۃ النساء: ۸۷

اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟

اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے،
یقیناً اس نے وہ کلام کیا ہے اور جبرایل پر القافر میا، پھر جبرایل علیہ السلام نے
اسے آنحضرت ﷺ کے قلب مبارک پر اتابرا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ سورۃ النحل: ۱۰۲

کہہ دیجئے اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی
کیسا تھا لے کر نازل ہوئے ہیں۔

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ

الْأَمِينُ ﴿١٩﴾ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٢٠﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ
 مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾ سورة الشعرا: ۱۹۲-۱۹۵

اور یہ (قرآن) پروردگار کا اتara ہوا ہے۔ روح الامین اس کو لے کرتا رہا ہے۔ (اس نے) تمہارے دل پر (القا کیا ہے) تاکہ تم (لوگوں کو) ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ (اور القابھی) فصح عربی زبان میں کیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے بلند و بالا ہے، اس نے خود ارشاد فرمایا:

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ سورة البقرہ: ۲۵۵

وہ بلند و بالا، عظمت والا ہے۔

نیز فرمایا:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٦﴾

سورۃ الانعام: ۱۸

اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدْبِرُ الْأَمْرَ﴾ سورۃ یونس: ۳

تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھومن میں
بنایا پھر عرش پر مستوی ہوا، وہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔

اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ بذاتہ اسپر بلند و
بالا ہوا جیسی بلندی اس کی عظمت و جلال کے شایانِ شان ہے، اسکے سوا کسی کو
اس بلندی کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔

اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے
اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، ان کے حالات جانتا، اقوام سنتا، افعال دیکھتا اور
تمام امور خلق کی تدبیر کرتا ہے، فقیر کو روزی دیتا اور ناتوان کو طاقت بخشتا ہے،
جسے چاہے با دشائی سے نوازتا اور جس سے چاہے اختیار سلطنت
سلب کر لیتا ہے، جسے چاہے عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا
کر دیتا ہے، ہر قسم کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت

رکھتا ہے اور جس ذات کی یہ شان ہو خواہ وہ حقیقتاً مخلوق سے بالاتر اپنے عرش پر ہی ہواں کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے ساتھ حقیقتاً ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ سورۃ

ashوری: ۱۱

اس جیسی کوئی چیز نہیں اور خوب دیکھنے، سننے والا ہے۔

ہم جہنمیہ میں سے حلولیہ فرقہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی مخلوق کے ہمراہ زمین میں ہے، ہمارا خیال ہے کہ جو شخص ایسے کہے وہ یا تو گمراہ ہے یا پھر کافر، کیونکہ اس نے اللہ کا ناقص وصف بیان کیا ہے اور ناقص اوصاف اس کے شایان شان نہیں۔

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ جو آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی ہے کہ ہر شب جب ایک تھائی رات باقی رہ جاتی ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا اور کہتا ہے:

”مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلْنِي فَأُعْطِيهُ،
مَنْ يَسْتَغْفِرِنِي فَاغْفِرَ لَهُ“

کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے
مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے معافی کا طلب گار ہے کہ میں
اس کے گناہ بخشن دوں۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں
کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے تشریف لائے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿كَلَّا إِذَا دُكِتَ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا ۚ ۚ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ
صَفَّا ۚ ۚ وَجِئَيْهِ يَوْمَ مِيْنَدِ بِجَهَنَّمَ ۖ ۚ يَوْمَ مِيْنَ يَتَذَكَّرُ
الْإِنْسَانُ وَآتَى لَهُ النِّعْمَةِ كُرْبَى ۚ ۚ سورة الاجر: ۲۱ تا ۲۳﴾

توجہ زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ اور تمہارا
پروردگار آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آ موجود ہوں گے۔ اور دوزخ اس
دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہو گا مگر (اس وقت) انتباہ کا

اسے کیا فائدہ؟

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ سورۃ البروج: ۱۶

وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ:

اس کے ارادہ کی دو قسمیں ہیں:

۱ ارادہ کونیہ:

یہ بہر حال وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس کی مراد اللہ کو پسند بھی ہو اور یہ مشیخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقتَرَبُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ﴾ سورۃ البقرہ: ۲۵۳

اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتل نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

نیز فرمایا:

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِحَ إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ طَهُورَ بَلْ كُمْ ق﴾ سورہ حود: ۳۴

اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیرخواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کر دے تو میری خیرخواہی کچھ سو دمند نہ ہو گی، وہی تمہارا پروردگار ہے۔

۲ ارادہ شرعیہ:

ضروری نہیں کہ یہ وقوع پذیر ہو جائے مگر اس کی مراد اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوَّبَ عَلَيْكُمْ ق﴾ سورۃ النساء: ۷۷

اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد خواہ وہ کوئی ہو یا شرعی اس کی حکمت کے تابع ہے۔

پس اللہ جو کچھ ارادہ کو نیہ کافی صلہ کرتا یا ارادہ شرعیہ کے تحت مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے اور وہ عین اس حکمت کے مطابق سرانجام پاتا ہے، خواہ ہمیں اس کا علم ہو کے یا ہماری عقلیں اس سے درماندہ قاصر رہ جائیں فرمایا:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَكَمَيْنَ ﴾ سورۃ التین: ۸

کیا اللہ سب سے بڑا حکم نہیں ہے۔

نیز فرمایا:

﴿وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُونَ ﴾ سورۃ المائدہ: ۵۰

اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کیلئے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمْ ﴾ سورۃ آل عمران: ۳۱

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہوں تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔

اور فرمایا:

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لَا ﴾ سورۃ المائدہ: ۵۳

تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت رکھے گا اور وہ اس سے محبت رکھیں گے۔

اور فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ سورۃ آل عمران: ۱۳۶

اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

﴿ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ سورۃ الحجرات: ۹

اور انصاف سے کام لو، بیشک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اور فرمایا:

﴿وَآخِسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ سورۃ البقرہ: ۱۹۵

اور نیکی کرو، بیشک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے جو اعمال و اقوال مشروع قرار دیئے ہیں وہ اسے پسندیدہ ہیں اور جن سے منع فرمایا وہ اسے ناپسند ہیں، فرمایا:

﴿إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضُى لِعِبَادِهِ الْكُفَّارُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَكُمْ﴾ سورۃ الزمر: ۷

اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کیلئے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لئے پسند فرمائے گا۔

﴿وَلِكُنْ كَرِهًا لِلَّهُ أَنِيعَا شَهْمَ فَشَبَّطُهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا﴾

۳۶ سورۃ التوبہ: ﴿مَعَ الْقُعَدِیْنَ﴾

لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا (اور نکلنا) پسند نہیں فرمایا، تو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور (ان سے) کہہ دیا گیا کہ جہاں (معدور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ رہو۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، فرمایا:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ طَذِلَكَ لِمَنْ خَشِيَ﴾

۸ سورۃ البینۃ: ﴿رَبَّهُ﴾

اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ (رضامندی کی نعمت) اس کیلئے ہے جو اپنے پروڈگار سے ڈرتا رہا۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

کفار وغیرہ جو لوگ غضب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان پر غصہ اور ناراض ہوتا ہے، فرمایا:

﴿الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظُنْنَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾ سورۃ الرُّفَاعَ ۶۷

جو اللہ تعالیٰ کے حق میں برے خیال رکھتے ہیں انہی پر برے حادثے واقع ہوں گے اور اللہ ان پر ناراض ہوا۔

اور فرمایا:

﴿وَلِكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ سورۃ النُّحُل ۱۰۶

بلکہ وہ جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسیوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہو گا۔

اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ:

اللہ کا جلال و اکرام سے موصوف چہرہ مبارک ہے، فرمایا:

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ﴾ سورۃ الرحمٰن: ۲۷

اور تیرے پروردگار کا چہرہ جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گا۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کے عظمت و کرم سے متصف دوہاتھ ہیں، فرمایا:

﴿بَلْ يَدْكُ مَبْسُوتَنِ «يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ»﴾ سورۃ المائدہ: ۶۳

بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

اور فرمایا:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ بِجَمِيعِهَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيلَتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَّى عَمَّا

یُشَرِّكُونَ ﴿٦﴾ سورۃ الزمر: ۶

اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہئے تھی نہیں کی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہو گی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کی دو حقیقی آنکھیں ہیں، جس کی دلیل درج ذیل آیت
قرآنی اور حدیث نبوی ہے، فرمایا:

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا﴾ سورۃ ہود: ۷

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”حِجَابُهُ الْبُؤْرُ ، لَوْ كَشَفْهُ لَا خَرَقْتُ سُبْحَاثُ وَجْهِهِ مَا

اُتْهَى إِلَيْهِ بَصَرُ كُمْنُ خَلْقِهِ“

اللہ کا پرده نور ہے، اگر اسے اٹھادے تو اس کے چہرہ مبارک

کے انوار تاحد نگاہ اس کی مخلوق کو جلا کر رکھ دیں۔

اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کی آنکھیں دو ہیں، اور اس کی تائید درج ذیل فرمانِ نبوی ﷺ سے بھی ہوتی ہے، آپ ﷺ نے دجال کے بارے میں فرمایا:

”إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ“

دجال کا نا ہے اور تمہارا پروردگار اس عیب و نقص سے پاک ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿لَا تُدِرِّكُهُ الْأَبْصَارُ ۚ وَهُوَ يُدِرُّكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ سورة الانعام: ۱۰۳

(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا

ادراک کرتا ہے اور وہ باریک بین، خبردار ہے۔

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ:

مؤمن قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار سے لطف اندوز

ہوں گے۔

اور فرمایا:

﴿وَجْهُهُ يَوْمَئِنِ نَاضِرٌ ۚ ۲۲ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرٌ ۚ ۲۳﴾ سورۃ القیامہ: ۲۲، ۲۳

اس دن بہت سے چھرے پر رونق ہوں گے۔ اپنے پروڈگار کے محدود یادار ہوں گے۔

اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ان جملہ صفاتِ باری تعالیٰ میں کمال کی وجہ سے اس کا ہم مثل کوئی نہیں ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ ۱۱﴾ سورۃ الشوریٰ: ۱۱

اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب دیکھنے، سننے والا ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ:

﴿لَا تَأْخُذْنَا سِنَةً وَلَا نَوْمٌ ط﴾ سورۃ البقرہ: ۲۵۵

اسے اونگھے اور نیند نہیں آتی۔

کیونکہ اس میں حیات اور قیومیت کی صفات بدرجہ کمال پائی

جاتی ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے کمال عدم والاصاف کی وجہ سے کسی پر

ظللم نہیں کرتا، اور اپنے ہمہ گیر علم اور کمال نگرانی کی وجہ سے وہ اپنے بندوں
کے اعمال سے بھی بے خبر نہیں ہوتا۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے کمال علم و قدر کی وجہ سے آسمانوں اور

زمین کی کوئی چیز اسے لا چاہ نہیں کر سکتی، فرمایا:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾

فَیَكُونُ ﴿۷۲﴾ سورۃ یس: ۸۲

اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے

فرمادیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔

اور یہ کہ اپنے کمال قوت کی بدولت اسے کبھی لا چاری اور تھکاوت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ سورۃ ق: ۳۸

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوق) ان میں ہے سب کو چھ دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں ذرا بھی تھکاوت نہیں ہوئی۔

”لُغُوب“ کا لفظ عاجمی اور تھکاوت دونوں کا معنی دیتا ہے۔

اور ہمارا ان تمام اسماء و صفات باری تعالیٰ پر ایمان ہے جن کا ثبوت خود اللہ کے کلام سے یا اس کے رسول ﷺ کے کلام سے ملتا ہے لیکن ہم دو عظیم غلطیوں سے اظہار براءت کرتے ہیں:

۱۔ التمثیل:

یعنی دل یا زبان سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی صفات کی طرح ہیں۔

۲۔ التکلیف:

دل یا زبان سے یہ کہنا کہ اللہ کی صفات یوں اور یوں ہیں۔

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے منزہ اور پاک ہے جن کی اپنی ذات کے بارے میں اس نے خود یا اس کے رسول ﷺ نے نفی کی ہے۔

یاد رہے کہ اس نفی میں ضمناً اس کے برخلاف اور صاف کمال کا ثبوت بھی ہے اور جن صفات کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا ہے، ہم بھی ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔

اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جن چیزوں کو اپنی ذات کیلئے خود اللہ نے ثابت کیا یا ان کی نفی کی ہے وہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں خبر دی ہے، اور اپنی ذات کو وہی سب سے بہتر جانتا ہے۔

پھر حسن بیان اور صدق مقال میں بھی وہ بے مثال ہے، اور بندوں

کا علم تو اس کی ذات کا ہرگز احاطہ نہیں کر سکتا۔

اور اللہ تعالیٰ کی جن صفات کے وجود یا ان کی نفی کا ثبوت آنحضرت ﷺ سے ملتا ہے وہ آپ کی طرف سے اللہ کی ذات کے بارے میں خبریں ہیں، اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر آنحضرت ﷺ کو ہی اللہ کے بارے میں علم تھا اور آپ ﷺ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ خیر خواہ، سچے اور عمدہ گفتگو کرنے والے تھے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا کلام کمال علم اور کمال صداقت کا حامل اور حسن بیان میں سب سے بڑھ کر اور بہتر ہے تو پھر اسے قبول کرنے میں تردود کے لئے کوئی بہانہ ہے، نہ اسے رد کرنے کیلئے کوئی عذر۔

فصل دوم:

اللہ کی وہ تمام صفات جن کا ہم نے گذشتہ صفحات میں تفصیلًا یا اجمالاً بطور نفی یا اثبات ذکر کیا ہے، ہم ان سب کے بارے میں اپنے رب عظیم کی کتاب قرآن اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر اعتماد کرتے ہیں، سلف امت اور ان کے بعد آنے والے انہمہ ہدایت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

اور ہمارے نزد یک کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصود کو ان کے ظاہری معانی اور اللہ عز و جل کی شان کے لائق حقائق پر محمول کرنا واجب ہے۔

اور ہم اعلان برأت کرتے ہیں:

الف۔ اہل تحریف کے طریق کارسے، جنہوں نے ان نصوص کتاب و سنت میں اللہ و رسول کے مشنا و مراد کے خلاف تحریف کی اور انہیں غلط معانی پر محمول کیا۔

ب۔ اور اہل تعطیل کے طرزِ عمل سے، جنہوں نے ان نصوص کو معطل قرار دے کر انہیں ان کے مدلولات کیلئے بے معنی ٹھہرایا جوان سے اللہ اور رسول کی مراد تھے۔

ج۔ اور اہل غلوکی روشن غلط سے، جنہوں نے ان نصوص کو تمثیل پر محمول کیا (یعنی ان کے معانی اور مدلولات کو انسانی اوصاف پر قیاس کر کے اس کی مثالیں دیں یا تکف کر کے ان صفات باری تعالیٰ کی کیفیت بیان کی جن پر یہ نصوص دلالت کرتی ہیں۔

اور ہمیں علم یقین حاصل ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوا ہے وہ سب حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تناقض و تعارض نہیں ہے، جس کی دلیل درج ذیل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ سورۃ النساء: ۸۲

بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سو اکسی دوسرے کا (کلام) ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔

نیز کسی کلام میں باہمی تناقض و تعارض کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول خبروں میں ایسا ہونا ممکن ہے۔

اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں یا ان دونوں کے درمیان باہمی تعارض ہے تو اس کے اس دعوے کی حقیقت غلط مقصد اور دل کی کجھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اسے چاہئے کہ اللہ کے حضور توبہ کرے اور اپنی کجھ روی سے چھٹکارا حاصل کرے۔

اور جو شخص اس وہم میں مبتلا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں یا ان دونوں کے درمیان باہمی تعارض ہے تو اس کی وجہ قلب علم ہے یا تصور فہم یا پھر غور و فکر میں کوتا ہی۔

سواس کیلئے ضروری ہے کہ علم کی تلاش کرے، غور و تدبر کی کوشش کرے تا آنکہ حق اس پر واضح ہو جائے، اگر اس کے باوجود اس سے حق کی روشنی نصیب نہ ہو تو معاملہ کسی صاحب علم پر چھوڑ دے اور اپنی اس توہم پرستی سے باز رہے اور پختہ کاراہل علم کی طرح یوں کہے:

﴿اَمَّا بِهِ لَا كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا ه﴾ سورۃ آل عمران: ۷

هم اس پر ایمان لائے (یہ) سب کچھ ہمارے پروردگار کے ہاں
سے (آیا) ہے۔

اور جان رکھے کہ کتاب و سنت میں اور ان دونوں کے درمیان ایک
دوسرے سے کوئی تناقض اور اختلاف نہیں ہے۔

فصل سوم:

فرشتوں پر ایمان

ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر کہ وہ اللہ کے:

﴿عِبَادُ مُكَرَّمُونَ ﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ سورۃ الانبیاء: ۲۶، ۲۷

مکرم بندے ہیں۔ اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور صرف
اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، وہ اس کی عبادت میں مصروف اور
اطاعت کیلئے دست بستہ کھڑے ہیں۔

﴿لَا يَسْتَكِبُرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِسِرُونَ ﴾

يُسِّحُونَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ﴿٢٥﴾ سورۃ الانبیاء: ۱۹، ۲۰

وہ (فرشتے) اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔ شب و روز (اس کی) تسبیح کرتے ہیں (نہ تھکتے ہیں) نہ تھمتے ہیں۔

اللہ نے ہماری نظروں سے انہیں اوچھل رکھا ہے، لہذا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کیلئے انہیں ظاہر بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، ان کے چھ سو پر تھے اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا۔

اور جبریل علیہ السلام نے مریم علیہا السلام کے پاس کامل بشر کی صورت اختیار کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے گفتگو فرمائی اور انہوں نے جواب دیا۔

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے پاس صحابہ کرام تشریف فرماتے تھے جبریل علیہ السلام ایسے شخص کی شکل میں تشریف لائے جس کی نہ کوئی جان پہچان تھی اور نہ اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے، کپڑے نہایت سفید، بال انتہائی سیاہ، آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے رو بروز اونو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے،

ہاتھ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ مُّبَارَکَۃُہُمْ کے رانوں پر رکھ لئے، پھر نبی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ مُّبَارَکَۃُہُمْ سے مخاطب ہوئے اور آپ بھی ان سے مخاطب ہوئے اور ان کے جانے کے بعد آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ مُّبَارَکَۃُہُمْ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبریل تھے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں کے ذمے کچھ کام لگائے گئے ہیں جنہیں وہ سرانجام دیتے ہیں۔

چنانچہ ان میں سے جبریل علیہ السلام ہیں جن کو وحی کا کام سونپا گیا ہے، جسے وہ اللہ کے پاس سے لاتے اور انبیاء و رسول میں سے جس پر اللہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔

اور ان میں سے میکائیل ہیں، بارش اور کھیتی اگانے کی دمہداری ان کے سپرد ہے۔

اور اسرافیل ہیں، جن کے ذمہ قیامت آنے پر بیہوشی کیلئے، پھر دوبارہ زندہ کرنے کیلئے صور پھونکنا ہے۔

اور ملک الموت ہے جس کے ذمے موت کے وقت روح قبض

کرنا ہے۔

اور ملک الجبال ہے جس کے ذمہ پھاڑوں کے امور ہیں۔

اور ان میں سے مالک ہے جو جہنم کا دار و غمہ ہے۔

اور کچھ فرشتے ان میں سے رحم مادر میں بچوں کے امور پر مقرر ہیں

اور کچھ دوسرے نبی آدم کی حفاظت پر متعین۔

اور کچھ فرشتوں کے ذمے نبی آدم کے اعمال کی کتابت ہے، ہر شخص

پر دو فرشتے مقرر ہیں۔

﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ قَعِيدُ ﴿۱۶﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ
قَوْلٍ إِلَّا لَدُيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ ﴿۱۷﴾ ﴿۱۸﴾ سورہ ق: ۱۷، ۱۸

جودا یہیں بائیں بیٹھے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر

ایک نگہبان اس کے پاس (لکھنے کو) تیار رہتا ہے۔

ایک گروہ میت سے سوال کرنے پر مامور ہے، جب میت موت

کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچادی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے

ہیں جو اس کے پروردگار، اس کے دین اور نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو:

﴿يُشَبِّهُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِطِ فِي الْحَيَاةِ
الَّذُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِيمِينَ وَيَفْعُلُ اللَّهُ مَا
يَشَاءُ﴾ سورۃ البراءۃ: ۲۷

اللہ ایمانداروں کو کچی بات (کلمہ طیبہ) پر دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (رکھے گا) اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اور ان میں سے کچھ فرشتے اہل جنت کے ہاں متعین ہیں۔

﴿يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَمَّا
صَدَرَتْ تُمْ فَيَنْعَمُ عُقْبَى الدَّارِ﴾ سورۃ الرعد: ۲۲، ۲۳

ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے (اوہ کہیں گے) تم پر سلامتی ہو (یہ تمہاری ثابت قدمی کے سبب ہے اور عاقبت کا گھر

خوب ہے۔

اور آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے بتایا کہ آسمان میں ”البیت المعمور“ ہے جس میں روزانہ ست ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتے ہیں ان کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔

و باللہ التوفیق۔

فصل چهارم:

کتابوں پر ایمان

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں جو اہل جہاں پر اللہ کی جھٹ اور عمل کرنے والوں کیلئے منارہ نور ہیں، پیغمبر ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے اور ان کے دلوں کی صفائی فرماتے رہے ہیں۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب نازل فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

**لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْبِنْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ
الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ** ﴿٢٥﴾ سورۃ الحمدید:

تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو حلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر

کتابیں نازل کیں اور ترازو (قواعد عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

اور ہمیں ان میں سے درج ذیل کتابوں کا علم ہے:

۱] تورات: جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور وہ کتب بنی اسرائیل میں سے عظیم ترین کتاب ہے۔

﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّلَبِنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ۖ إِمَّا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدًا﴾ سورۃ المائدۃ: ۲۳

جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو (اللہ کے) فرمانبردار تھے، یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور مشائخ و علماء بھی کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کئے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔

۲] انجیل: جسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور وہ تورات کی تصدیق اور اس کا تتمہ تھی۔ فرمایا:

﴿وَاتَّيْنَاهُ الْأُنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ لَا وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ

يَدِيهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًىٰ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣﴾ سورۃ المائدہ: ۲۶

اور ہم نے اس (عیسیٰ علیہ السلام) کو نجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور وہ تورات کی، جو اس سے پہلی (کتاب) ہے، تصدیق کرتی ہے اور پرہیز گاروں کیلئے ہدایت و نصیحت ہے۔

نیز فرمایا: ﴿وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾

سورۃ آل عمران: ۵۰

اور (میں اس لئے بھی آیا ہوں کہ) بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لئے حلال کر دوں۔

۳ زبور: جس سے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سرفراز فرمایا۔

۴ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے صحائف۔

۵ قرآن مجید: جس سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا:

﴿هُدًىٰ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾

سورۃ البقرہ: ۱۸۵

جو لوگوں کیلئے راہنماء اور (جس میں) ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔
ہاتھوں سے لکھنے پر افسوس ہے اور (دوسرा) اس لئے ان پر افسوس ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَبَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوْرًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدِّلُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ سورۃ الانعام: ۹۱

کہہ دیجئے! جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لئے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم علحدہ علحدہ اور اراق (پر نقل) کر کے رکھتے ہو، ان (کے کچھ حصے) کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ كُمَّنَ الْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتَيْهُ اللَّهُ الْكِتَبُ وَالْحُكْمُ
وَالنُّبُوَّةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا إِنِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿۱۵﴾

سورة آل عمران: ۷۸، ۷۹

اور ان (اہل کتاب) میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب (تورات) کو زبان مرد مرد کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے (نازل ہوا) ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ یہ بات جانتے بھی ہیں۔ کسی بشر کو یہ شایان شان نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہہ کے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
هُمْ مَا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبَيِّنٌ ۝ يَهْدِي مَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى النُّورِ

بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الظَّالِمُونَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۝ سورۃ المائدۃ: ۱۵ تا ۱۷

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے (آخری) پیغمبر آگئے ہیں، جو تم کتاب (الہی) میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور نظر انداز کر دیتے ہیں، بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے۔ جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، وہ بیشک کفر کرتے ہیں۔

و باللہ التوفیق۔

فصل پنجم:

رسولوں پر ایمان

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف رسول معبوث فرمائے اور ان کو:

﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَئِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ﴾
 بَعْدَ الرُّسُلِ طَوَّا اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٦٥﴾ سورۃ النساء: ۶۵

خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے دلیل دینے کا موقع نہ رہے اور اللہ غالب، حکمت والا ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ ان میں سے اولین رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تھے، فرمایا:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ

بَعْدِهِ﴾ سورۃ النساء: ۱۶۳

(اے محمد!) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے رسولوں کی طرف بھیجی تھی۔

نیز فرمایا:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ط﴾ سورۃ الاحزاب: ۲۰

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والدین ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کردینے والے) ہیں۔

اور بے شک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سب سے افضل ہیں اور پھر علی الترتیب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسی علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ وعلیہما السلام کامقام و مرتبہ ہے اور یہی پانچ خاص طور سے اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيَثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحَ
وَابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِيَثَاقًا غَلِيلًا﴾ سورۃ الاحزاب: ۷

اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکالیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت ﷺ کی شریعت خصوصی فضیلت کے حامل ان تمام رسولوں کی شریعتوں کے جملہ فضائل کو اپنے اندر سمیئے ہوئے ہے، فرمایا:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
آتِيُّمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ سورۃ الشوری: ۱۳

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی رستہ مقرر کیا ہے جس (کے اختیار کرنے) کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی (اے محمد!) ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا (وہ یہ) کہ دین کو

قاوم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام رسول بشر اور مخلوق تھے، ربوبیت کی خصوصیات میں سے ان میں کوئی چیز نہ تھی، اللہ نے اولین رسول حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَازٌ إِنَّ اللَّهَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ سورۃ ہود: ۳۱

نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور سب سے آخری رسول حضرت محمد ﷺ کو حکم فرمایا کہ لوگوں سے فرمادیں۔

﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَازٌ إِنَّ اللَّهَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ سورۃ الانعام: ۵۰

نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور یہ

بھی فرمادیں کہ:

﴿ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ﴾

اللّٰهُ ط سورۃ الاعراف: ۱۸۸

میں اپنی ذات کے لئے کسی فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں

مگر جو اللہ چاہے۔

اور فرمادیں کہ:

﴿ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشْدًا ۚ ۲۱ قُلْ إِنِّي لَنْ يُبَيِّنَنِي

مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ ۖ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۚ ۲۲﴾ سورۃ الحجۃ: ۲۱، ۲۲

بیشک میں تمہارے حق میں کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ

بھی کہہ دو کہ اللہ (کے عذاب) سے مجھے ہرگز کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں

اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں پاتا۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام رسول علیہم السلام اللہ کے بندوں میں سے

تھے، اللہ نے انہیں رسالت کے اعزاز سے نواز اور ان کی مدح و ستائش

کے بلند ترین مقامات میں ان کے وصف عبودیت (بندگی) کا ذکر فرمایا، اولین پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلَنَا مَعَ نُوحٍ طِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا﴾

شَكُورًا ﴿٣﴾ سورہ الاسراء: ۳

اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا، بیشک نوح (ہمارے) شکر گذار بندے تھے۔

اور خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ سورۃ الفرقان: ۱

(اللہ) بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل جہان کو رائے۔

اور دیگر رسولوں کے متعلق فرمایا:

﴿وَادْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى

الْأَيْدِيٰنِ وَالْأَبْصَارِ ﴿٢٥﴾ سورۃ ص: ۲۵

اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت
والے اور صاحب نظر تھے۔

﴿وَإِذْ كُرْ عَبَدَنَا دَأْوَدَ الْأَيْدِيٰنِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ سورۃ ص: ۱۷

اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والے تھے، وہ پیشک
(اللہ کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔

﴿وَوَهَبْنَا لِدَأْوَدَ سُلَيْمَيْنَ طَ نِعْمَ الْعَبْدُ طِ إِنَّهُ

آوَّابٌ﴾ سورۃ ص: ۲۰

اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کئے، بہت خوب بندے (تھے اور)
وہ (اللہ کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔

اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَيْنِ

إِسْرَآءِيلَ﴾ سورۃ الزخرف: ۵۹

وہ تمہارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کیلئے ان کو نمونہ بنایا۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت محمد یہ علی صاحب بالصلوٰۃ والسلام کے ساتھ سلسلہ رسالت و نبوت ختم فرمایا اور آپ کو پوری انسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِجَمِيعِ الْذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمْيِتُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُوحَى مِنْ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ
وَإِنَّهُ عَوْدٌ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ سورة الاعراف: ۱۵۸

(اے محمد!) کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں (یعنی اس کا رسول ہوں) وہ جس کیلئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لا اور ان کی پیروی کروتا کہ ہدایت پاؤ۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ سَلَّمَ کی شریعت ہی دین اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کیلئے پسند فرمایا، اربیشک اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا کوئی دین قبول نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا سَلَامٌ﴾ سورۃ آل عمران: ۱۹

بیشک دین تو اللہ کے نزد یک صرف اسلام ہے۔

اور فرمایا:

﴿الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾ سورۃ المائدہ: ۳

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِ﴾ سورۃ آل عمران: ۸۵

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو گا۔

اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جو مسلمان دین اسلام کے علاوہ کسی دین مثلاً یہودیت، نصرانیت وغیرہ کو اللہ کے پاس قبل قبول اور معتبر سمجھے وہ کافر ہے، اسے توبہ کیلئے کہا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو بہتر ورنہ اسے مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائیگا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی تکذیب کا مرتكب ہوا ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس شخص نے رسالت محمد یے کو پوری انسانیت کیلئے ہونے کا انکار کیا، اس نے تمام رسولوں کے ساتھ کفر کیا، حتیٰ کہ اس رسول کا بھی جس کی اتباع اور اس پر ایمان کا اسے دعویٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كَذَّبُواْ بِّئْتَ قَوْمٍ نُّوحَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾١٥﴾ سورۃ الشعرااء: ۱۰۵

قوم نوح نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔

اس آیت مبارکہ میں نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کو تمام رسولوں کا مکذب قرار دیا گیا ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام سے قبل کوئی رسول نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفِرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفِرُ بِبَعْضٍ لَا وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾^(۱۵) اولیٰک هُمُ الْكُفَّارُ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ يَوْمًا مُهِينًا^(۱۶)

سورۃ النساء: ۱۵۰، ۱۵۱

بیشک جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک نئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ بلاشبہ کافر ہیں اور کافروں کیلئے ہم نے رسول کو عذاب تیار کر کھا ہے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ

کے بعد جس کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کسی مدعی نبوت کی تصدیق کی اور اسے سچا سمجھا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجماع کو جھپٹانا نے کام تکب ہوا ہے۔

اور ہماری بُنیٰ کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے خلفائے راشدین پر بھی ایمان ہے، جو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی امت میں آپ کے بعد علم، دعوت و تبلیغ اور مومنوں پر ولایت میں کے خلیفہ بنے اور بلاشک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہی چاروں خلفاء میں سب سے افضل اور خلاف کے اولین حقدار تھے، پھر علی الترتیب حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان و حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ ہے، اسی مقام و مرتبہ اور فضیلت میں ترتیب کے مطابق وہ یکے بعد دیگرے خلافت کے حقدار تھے۔

اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے جبکہ اس کا کوئی کام بھی انہتائی درجہ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کہ وہ خیر القرون میں کسی بہتر اور خلافت کی زیادہ حقدار شخصیت کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کو مسلمانوں پر مسلط فرمادے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ خلفائے راشدین میں سے مذکورہ ترتیب کے مطابق بعدوا لے خلیفہ میں ایسے خصائص ہو سکتے ہیں جن کی بدولت وہ اپنے سے افضل خلیفہ سے جزوی طور پر فائز ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے سے افضل خلیفہ پر مطلق فضیلت کا حقدار ہے کیونکہ فضیلت کے اسباب بہت سارے اور کئی قسم کے ہیں۔

امت محمد یہ تمام امتوں سے بہتر ہے

اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ:

یہ امت تمام امتوں سے بہتر اور اللہ کے ہاں زیادہ عزت و شرف رکھتی ہے، ارشادِ ربانی ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرًاٰ أُخْرِجْتُ لِلَّنَّا إِنْ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ سورۃ آل عمران: ۱۱۰

(مومنو!) جتنی امتنیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر

ایمان رکھتے ہو۔

ہمارا ایمان ہے کہ:

امت میں سب سے بہتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین رحمہم اللہ، اور یہ کہ اس امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والا یا انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا کوئی شخص ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو فتنے ظہور پذیر ہوئے ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اجتہاد پر منی تاویل کی بناء پر سب کچھ ہوا، سوجس کا اجتہاد درست تھا اسے دو اجر ملیں گے اور جس سے اجتہادی غلطی ہوئی اسے ایک اجر ملے گا اور اس کی خطاب بخش دی گئی ہے۔

اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کی ناپسندیدہ باتوں پر حرف گیری سے مکمل طور پر باز رہنا واجب ہے، صرف ان کی بہتر سے بہتر مدد سرائی کرنی چاہئے جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق ہمیں اپنے دلوں کو کینے اور بغض وغیرہ سے پاک رکھنا چاہئے، کیونکہ ان کی

شان میں اللہ کا فرمان ہے:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقُتِلَ طَ اُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ آنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتَلُوا طَ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ط﴾ سورۃ الحدید: ۱۰

جس شخص نے تم میں سے فتح (کھ) سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کئے وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں (مال) خرچ کیا اور جہاد میں شریک ہوئے، اور اللہ نے سب سے نیکی (ثواب) کا وعدہ کیا ہے۔

اور ہمارے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا إِلَيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلَّا لِلَّذِينَ أَمْنُوْ ارَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ فَرَّحِيمٌ ط﴾ سورۃ الحشر: ۱۰

اور ان کیلئے بھی جوان (مهاجرین) کے بعد آئے (اور) دعا کرتے

ہیں کہ اے پروردگار! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرمادے اور مونموں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ (حسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار! تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

و باللہ التوفیق۔

فصل ششم:

قیامت پر ایمان

یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے اور وہی قیامت کا دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کیلئے نعمتوں کے گھر جنت میں رہیں گے یا دردناک عذاب کے گھر جہنم میں۔

اور ہمارا بعثت بعد الموت پر ایمان ہے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ صور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ فرمائے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ طُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ﴾

يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ سورۃ الزمر: ۶۸

اور جب صور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جوز میں میں ہیں، سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے، پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔

تب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر پورا دگار عالم کی طرف جائیں گے، ننگے پاؤں بغیر جوتوں کے، ننگے بدن بغیر کپڑوں اور بغیر ختنوں کے ہوں گے۔

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ طَ وَعْدًا عَلَيْنَا طِ إِنَّا كُنَّا

فِعِيلِينَ ﴿١٠٣﴾ سورۃ الانبیاء: ۱۰۳

جس طرح ہم نے (کائنات کو) پہلے پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے (یہ) وعدہ (ہے جس کا پورا کرنا) ہم پر لازم ہے، ہم (ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔

اور ہمارا عمل ناموں پر بھی ایمان ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں دیئے

جانب میں گے یا پشت کی جانب سے بائیکیں ہاتھ میں، فرمایا:

﴿فَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتْبَةً بِيَمِينِهِ ۚ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۗ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۗ وَآمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتْبَةً وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۚ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۗ وَيَضْلِي سَعِيرًا ۗ﴾ سورۃ الانشقاق: ۷ تا ۱۲

توجس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور اپنے گھروالوں میں خوش ہو کر لوٹے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کی جانب سے دیا گیا وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا۔

اور فرمایا:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ الْزَّمْنَهُ طِيرَةٌ فِي عُنْقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتْبًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا ۗ إِقْرَا كِتْبَكَ ۖ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۗ﴾ سورۃ الاسراء: ۱۳، ۱۴

اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی ہے اور قیامت کے روز (ایک) کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ (کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔

اور میزان اعمال پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے روز وہ قائم کئے جائیں گے، پھر کسی جان پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا۔

﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَزَّهُدُ فِيْهَا وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَزَّهُدُ فِيْهَا﴾ سورۃ الززال: ۷، ۸

تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۱۰۲ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَلِدُوْنَ ۱۰۳ تَلْفُحٌ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ﴾ سورۃ المؤمنون: ۱۰۲ تا ۱۰۳

توجن کے (عملوں کے) بوجھ بھاری ہوں گے وہ فناح پانے والے ہیں۔ اور جن کے بوجھ پلکے ہوں گے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تینیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَاٰ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ سورۃ الانعام: ۱۶۰

جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی دس نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے ویسی ہی سزا ملے گی (ایک برائی کے برابر) اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ شفاقت عظمی کا اعزاز خصوصاً آنحضرت ﷺ کو حاصل ہو گا۔

جب لوگ ناقابل برداشت پر بیشانی اور تکلیف میں بنتا ہوں گے تو پہلے حضرت آدم پھر یکے بعد دیگرے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت

موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اس کے حضور بندوں کی سفارش فرمائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمادے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ جو مون اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے ان کو وہاں سے نکالنے کیلئے بھی سفارش ہو گی اور اس کا اعزاز بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے علاوہ دیگر انبیاء، مونوں اور فرشتوں کو بھی حاصل ہو گا۔

اور اللہ تعالیٰ مونوں میں سے کچھ لوگوں کو بغیر سفارش کے محض اپنی رحمت اور فضل خاص سے جہنم سے نکال لے گا۔

اور ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے بڑھ کر سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے بڑھ کر حوشبدار ہو گا، اس کا طول و عرض ایک ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہو گا اور اس کے آب خورے حسن و زیبائش اور کثرت تعداد میں آسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے۔

امت محمدیہ کے اہل ایمان وہاں سے پانی پینیں گے، جس نے وہاں سے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ جہنم پر پل صراط نصب ہوگی، لوگ اپنے اپے اعمال کے مطابق اس پر سے گذریں گے، پہلے درجہ کے لوگ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، پھر درجہ بدرجہ کچھ ہوا کی سی تیزی سے اور کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ تیز دوڑتے ہوئے گذریں گے اور نبی کریم ﷺ پل صراط پر کھڑے دعا فرمائے ہوں گے: آئے رب! انہیں سلامت رکھ۔ حتیٰ کہ بندوں کے اعمال پل صراط پر سے گذر نے کیلئے ناکافی اور عاجز رہ جائیں گے تو وہ پیٹ کے بل گھستیتے ہوئے گذریں گے۔

اور پل صراط کے دور ویہ انکوڑے لٹکنے جس کے متعلق انہیں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گی، کچھ لوگ تو ان کی خراشوں سے زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور کچھ جہنم میں گرفتاریں گے۔

اور کتاب و سنت میں اس دن کی جو خبریں اور ہولنا کیاں مذکور ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان میں ہماری مدد فرمائے۔

اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم ﷺ اہل جنت کے جنت میں داخلہ کیلئے بھی سفارش فرمائیں گے اور اس کا اعزاز بھی بالخصوص آپ ﷺ کی ذات گرامی کو حاصل ہو گا۔

جنت، دوزخ پر بھی ہمارا ایمان ہے، جنت دار النعیم (نعمتوں کا گھر) ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے متفقی اور مومن بندوں کیلئے تیار کیا ہے، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی فردِ بشر کے دل میں ان کا تصور ہی آیا ہے، فرمایا:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءًٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سورۃ السجدة: ۷۸

کوئی تنفس نہیں جانتا کہ ان کیلئے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلمہ ہے جو وہ کرتے رہے۔

اور جہنم عذاب کا گھر ہے جسے اللہ نے کافروں ظالموں کے لئے تیار کر رکھا ہے اس میں ایسا عذاب اور عبرت ناک سزا نہیں ہیں جن کا دل پر کبھی کھٹکا بھی نہیں گزرا، فرمایا:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لَا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا طَ وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِنَّ الْمُهَلِّ يَشُوِي الْوُجُوهَ طَ بِئْسَ الَّذِي أَبْطَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ سورۃ الکھف: ۲۹

ہم نے ظالموں کیلئے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتمیں ان کو گھیر رہی ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پچھلے ہوئے تابنے کی طرح چہروں کو بھون ڈالے گا (ان کے پینے کا) پانی بھی برآ اور آرام گاہ بھی بری۔

اور جنت، دوزخ اس وقت بھی موجود ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
کبھی فنا نہیں ہوں گے، فرمایا:

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُؤْدَخُلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ سورۃ الطلاق: ۱۱

اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا (اللہ) ان کو باغ ہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان

میں رہیں گے، اللہ نے ان کا رزق خوب بنایا ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعْنَ الْكُفَّارِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾٣٧ خلدیں
 فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾٣٨ يومن تُقلَّبُ
 وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يُلْيَتَنَا أَطْعُنَا اللَّهُ وَأَطْعُنَا
 الرَّسُولُ لَا ﴾٣٩ سورۃ الاحزاب: ۲۳ تا ۲۶﴾

بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ (جہنم) تیار کر رکھی ہے۔ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے اے کاش! ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے اور رسول کا حکم مانتے۔

اور ہم اُن سب لوگوں کو جنتی ہونے کی شہادت دیتے ہیں جن کیلئے کتاب و سنت نے نام لے کر یا اوصاف ذکر کر کے جنت کی شہادت دی ہے۔ جن کے نام لے کر انہیں جنت کی شہادت ملی ہے ان میں ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے علاوہ کچھ اور

حضرات بھی شامل ہیں جن کی آنحضرت ﷺ نے تعین فرمائی۔

اور اہل جنت کے اوصاف کے اعتبار سے ہر مومن اور متقیٰ کیلئے جنت کی شہادت ہے۔

اور اسی طرح ہم ان سب لوگوں کے جہنمی ہونے کی شہادت دیتے ہیں جن کے نام لے کر یا اوصاف ذکر کر کے کتاب و سنت نے انہیں جہنمی قرار دیا ہے، چنانچہ ابو لہب، عمر و بن الحزاعی اور اس مقاش کے لوگوں کو نام لے کر جہنمی قرار دیا گیا ہے، اور اہل جہنم کے اوصاف کے اعتبار سے ہر کافر اور مشرک جس نے شرکِ اکبر کا ارتکاب کیا ہوا اور منافق کیلئے جہنم کی شہادت ہے۔

اور ہم قبر کی آزمائش و ابتلاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد وہ سوالات ہیں جو میت سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں ہوں گے۔ لہذا

﴿يُشَّهِدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ سورۃ ابراہیم: ۲۷

اللَّهُمَّ مُؤْمِنُوْںَ کوْ پُکَیْ بات پر دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے
اور آخِر میں بھی (رکھے گا)

مومن تو کہے گا کہ میر ارب اللہ، میرا دین اسلام اور میرے نبی
محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہیں۔ مگر کافر اور منافق جواب دیں گے کہ میں نہیں جانتا، میں تو
جو کچھ لوگوں کو کہتے سنتا، کہہ دیتا تھا۔
ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں مومنوں کو نعمتوں سے نواز اجائے گا۔

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلِئَكَةُ طَيِّبِينَ لَا يَقُولُونَ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ سورۃ النحل: ۳۲

جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ (کفر و شرک سے
پاک ہوتے ہیں، سلامتی کہتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) جو عمل تم کیا کرتے
تھے ان کے سبب بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

اور ظالموں اور کافروں کو قبر میں عذاب ہو گا، فرمایا:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلِئَكَةُ

بَاسْطُوا أَيْدِيهِمْ ۚ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ۖ الْيَوْمَ تُبَعَّذَلُونَ عَذَابَ
الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنِ اِيتِهِ
تَسْتَكِبُرُونَ ﴿٩٣﴾ سورة الانعام : ٩٣

اور کاش تم ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں
(بتلا) ہوں اور فرشتے (ان کی طرف عذاب کیلئے) ہاتھ بڑھا رہے ہوں
کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لئے
کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیات سے سرکشی کرتے تھے۔
اور اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی اہل علم کے ہاں معرو
ف ہیں، لہذا اہل ایمان پر فرض ہے کہ ان غیبی امور کے متعلق جو کچھ کتاب و
سنن میں آیا ہے اس پر بلا چون و چرا ایمان لا میں اور دنیا کے مشاہدات پر
قیاس کر کے ان سے معارضہ اور اختلاف نہ کریں کیونکہ اُخزوی امور کا دنیوی
امور پر قیاس درست نہیں، ان دونوں کے درمیان بڑا واضح فرق ہے۔

فصل ہفتم:

تقدیر پر ایمان

اور ہم تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ کائنات کے بارے میں پہلے سے اللہ کے علم اور تقاضائے حکمت کے عین مطابق ہے اور مراتب تقدیر چار ہیں۔

پہلا مرتبہ - علم:

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جو ہو چکا ہے اور جو ہو گا اور جس طرح ہو گا سب کچھ اپنے ازلی اور ابدی علم کے ذریعے جانتا ہے، اس کا علم کی کوئی ابتداء ہے اور نہ ہی انہیاں

دوسرा مرتبہ - کتابت:

ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے لوح
محفوظ میں لکھ رکھا ہے، فرمایا:

الَّمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤﴾ سورہ الحج: ۷۰

کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا
ہے، (یہ سب کچھ) کتاب میں (لکھا ہوا) ہے، یہ سب اللہ کیلئے آسان ہے۔

تیسرا مرتبہ - مشیبیت:

ہمارا ایمان ہے کہ جو آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی مشیبیت کا
تقاضا ہے، کوئی چیز اس کی مشیبیت کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے
وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔

چوتھا مرتبہ - تخلیق:

ہمارا ایمان ہے کہ

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكَيْلٌ لَهُ﴾
مَقَالِيلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿۲۲، ۲۳﴾ سورۃ الزمر

اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں
ہے۔ اس کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔

اور ان مراتب تقدیر میں وہ سب کچھ شامل ہے جو خود ذات
باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو بندوں کی طرف سے ہوتا ہے، سو
بندوں سے جو بھی اقوال و افعال صادر ہوتے ہیں یا جن کاموں کو وہ ترک
کر دیتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے علم میں اس کے پاس لکھے ہوئے
ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت نے ان کا تقاضا کیا اور اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ سورۃ التکویر: ۲۸، ۲۹

اس کیلئے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے۔ اور تم کچھ بھی نہیں
چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ فَلِكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

يُرِيدُ ﴿۲۵۳﴾ سورۃ البقرہ:

اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتل نہ کرتے، لیکن اللہ جو
چاہتا ہے کرتا ہے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُواْ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳﴾ سورۃ

الانعام: ۷

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو چھوڑ دے کہ وہ
جانبیں اور ان کا جھوٹ۔

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ سورۃ الصافات:

حالانکہ تم کو اور جو تم کرتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
بندے کو اختیار اور قدرت سے نوازا ہے، بندہ جو کرتا ہے اس اختیار اور قدر
کی بنابری کرتا ہے۔

اور کئی امور اس بات کی دلیل ہیں کہ بندے کا فعل اس کے اختیار اور قدر سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔

۱ ارشاد باری تعالیٰ:

﴿فَأُتُوا حِرْثَكُمْ آنِي شَتُّتُمْ﴾ سورۃ البقرہ: ۲۲۳

اپنی کھتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔

اور فرمایا:

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوقَ حَلَّا عَدُوَّالَهِ عُلَّةً﴾ سورۃ التوبہ: ۳۶

اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کیلئے سامان تیار کرتے۔

پہلی آیات میں ”اتیان“ (آنے) کو بندے کی مشیبیت کے ساتھ اور دوسری آیت میں ”اعداد“ (تیاری) کو اس کے ارادے پر موقوف رکھا ہے۔

۲ بندے کو اللہ نے اور انہوں نے کام کلف ٹھہرا یا ہے، اگر اس کے پاس اختیار و قدر نہ ہوتے تو یہ تکلیف مالا بی طاق ہوتی، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ کی حکمت، رحمت اور اس کی طرف سے موصول ہونے والی سچی خبر

کے منافی ہے جبکہ اس کا فرمان ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ سورۃ البقرہ: ۲۸۶

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

■ نیکو کار کی نیکی پر ستائش، بد کار کی بد کاری پر مذمت اور دونوں کو ان کے حسب استحقاق بد لے کا وعدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مجبور نہیں، بلکہ مختار ہے۔

اگر بندے کا فعل اس کے اختیار اور ارادے سے صادر نہ ہوتا تو نیکو کار کی مدد سرائی فضول اور برے کی سزا اس پر ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ فضول کے کاموں اور ظلم سے پاک ہے۔

■ اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے جن کا مقصد یہ ہے کہ:

﴿ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لَئِلَّا يَكُونَ لِلَّهِ أَسْعَى الْمُجَاهِدَةَ

﴿ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ سورۃ النساء: ۱۶۵

(سب) پیغمبروں کو (اللہ نے) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے

والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے سامنے دلیل دینے کا موقع نہ رہے۔

اور اگر بندے کا عمل اس کے اختیار و ارادہ میں نہ ہوتا تو رسولؐ بھیجنے سے اسکی جحت باطل نہ ہوتی۔

۵ ہر کام کرنے والا شخص کام کرتے یا اسے چھوڑتے وقت اپنے آپ کو ہر طرح کے جبرا کراہ سے آزاد محسوس کرتا ہے۔

انسان محسض اپنے ارادہ سے اٹھتا، بیٹھتا، آتا جاتا اور سفر و حضرا اختیار کرتا ہے، اسے کوئی شعور و احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اسے اس پر مجبور کر رہا ہے، بلکہ فی الواقع وہ ان امور میں جو اپنے اختیار سے یا کسی کے مجبور کرنے سے کرات ہے فرق کر سکتا ہے، ایسے ہی شریعت نے بھی احکام کے اعتبار سے ان دونوں قسم کے افعال و اعمال میں فرق کیا ہے۔

چنانچہ انسان حقوق اللہ سے متعلق جو کام مجبور ہو کر گذرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

ہمار عقیدہ ہے کہ گنہ گار کو اپنی معصیت پر تقدیر سے جحت پکڑنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ معصیت کا اقدام کرتے وقت با اختیار ہوتا ہے اور اسے اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کیلئے یہی مقدر کر رکھا ہے، کیونکہ کسی امر کے واقع ہونے سے قبل تو اللہ کی تقدیر پر کوئی نہیں جان سکتا۔

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَّاً﴾ سورہ لقمان: ۳۳
اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔

پھر جب انسان کوئی اقدام کرتے وقت ایک جحت کو جانتا ہی نہیں تو پھر عذر پیش کرتے وقت اس سے دلیل کیونکہ پکڑ سکتا ہے؟ اور بلا شک االلہ تعالیٰ نے اس جحت کو باطل قرار دیا ہے، فرمایا:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ آشَرُ كُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا آشَرَ كُنا وَلَا
ابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حَتَّىٰ ذَا قُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَ كُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرُصُونَ﴾ سورہ
الانعام: ۱۲۸

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک کرتے) اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہرا تے، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جوان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے، کہہ دو کیا تم ہمارے پاس کوئی سند ہے؟ (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکلو، تم محض خیال کے پچھے چلتے اور اُل کے تیر چلاتے ہو۔

☆ نیز ہم تقدیر کو بنیاد بنا کر معصیت کا ارتکاب کرنے والوں سے کہیں گے: اللہ نے آپ کی یہی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اطاعات اور معصیت میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے بلکہ فعل صادر ہونے سے پہلے اعلیٰ میں آپ کے لئے دونوں برابر ہیں، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خبر دی کہ تم میں ہر ایک کا جنت اور جہنم دونوں میں ٹھکانہ مقرر کر دیا گیا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ آیا ہم عمل ترک کر کے اسی پر اعتماد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں کیونکہ جس کو جس ٹھکانے کیلئے پیدا کیا گیا ہے اسی کے اعمال کی توفیق سے اسے میسر آتی ہے۔

☆ نیز اپنی معصیت پر تقدیر سے جحت پڑنے والے سے کہیں گے کہ اگر آپ کاملہ کیلئے سفر کا رادہ ہو، اور اس کے وہ راستے ہوں آپ کو کوئی قابل اعتماد آدمی خبر دے کہ ایک راستہ ان میں سے خطرناک اور تکلیف دہ ہے، دوسرا آسان اور پر امن ہے، تو یقیناً آپ دوسرا راستہ ہی اختیار کریں گے اور ناممکن ہے کہ یہ کہتے ہوئے پہلے پر خطر راستے پر چل نکلیں کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا شمار دیوانوں میں ہو گا۔

☆ نیز ہم اس سے یہ بھی کہیں گے کہ:

اگر آپ کو دو ملازمتوں کی پیش کش کی جائے، ان میں سے ایک کا مشاہرہ زیادہ ہو تو آپ کم تxonah کی بجائے زیادہ تxonah والی ملازمت میں اختیار کریں گے، تو پھر عمل آخرت کے سلسلے میں آپ کو کیونکہ گردانی اجرت کو اختیار کرتے ہیں اور پھر تقدیر کو جحت بناتے ہیں۔

☆ اور ہم اس سے یہ بھی کہیں گے کہ:

جب آپ کسی جسمانی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو علاج کیلئے ہر

ڈاکٹر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ ریشن کی تکلیف اور کڑوی دوا پورے صبر سے برداشت کرتے ہیں، تو پھر اپنے دل پر مرض معصیت کے حملہ کی صورت میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے۔

اور ہمارا ایمان ہیکہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت و حکمت کے پیش نظر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی، نبی ﷺ نے فرمایا:

”وَالشَّرُّ لِيُسَدِّلُ إِلَيْكَ“

اور شر تیری طرف (منسوب) نہیں ہے۔ (صحیح مسلم)

فی نفْسِ اللَّهِ كَيْفَيَةُ قَضَاءِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ هُمْ يَعْمَلُونَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُلِّ شَرٍّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ
حکمت سے صادر ہوتی ہے، بلکہ اس کے مقتضیات و نتائج میں شر ہوتا ہے (جو بندوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے جو دعائے قنوت تعییم

فرمائی اس میں آپ کا ارشاد ہے:

”وَقِنِيُّ شَرَّ مَا قَضَيْتَ“

مجھے اپنی فیصلہ کردہ چیز کے شر سے محفوظ رکھ۔

اس میں شر کی اضافت مقتضی یعنی قضا کے نتیجہ کی طرف ہے اور پھر مقتضیات و نتائج میں بھی محض اور خالص شر نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک اعتبار سے شر ہوتا ہے تو دوسرے اعتبار سے خیر، نیز ایک مقام پر وہ شر نظر آتا ہے تو دوسرے مقام پر وہی خیر محسوس ہوتا ہے۔

مثلاً خشک سالی، بیماری، فقیری اور خوف وغیرہ تمام چیزیں فساد فی الارض ہیں لیکن دوسرے مقام اور نقطہ نظر سے یہی چیزیں خیر و بحلاٰئی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِمَّا كَسْبَتُ أَيْدِي
النَّاسِ إِيْذِ يُقْهِمُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

سورۃ الروم: ۳۱

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے۔

تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چھکائے، عجب نہیں کہ

وہ باز آ جائیں۔

اور چور کو ہاتھ کا ٹنے کی سزا، شادی شدہ بد کار کور جم (سنگساری) کی سزا، چور اور زانی کیلئے تو شر ہے کیونکہ ایک کا ہاتھ ضائع ہوتا اور دوسرا کی جان جاتی ہے، لیکن ایک اعتبار سے تو یہ ان کیلئے بھی خیر ہے کہ گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیلئے دنیا و آخرت کی سزا جمع نہیں فرماتے۔ اور دوسرا مقام پر یہ اس اعتبار سے خیر ہے کہ اس سے لوگوں کو مالوں، عزتوں اور نسبوں کی حفاظت ہوتی ہے۔

فصل ہشتم:

اس عقیدے کے ثمرات و فوائد

ان عظیم الشان اصول و قواعد پر مشتمل یہ بلند پایہ عقیدہ اپنے معتقد کیلئے بہت سے جلیل القدر ثمرات و نتائج کا حامل ہے۔

چنانچہ ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت و تعظیم پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں وہ ادامر ایسی پرکار بندر رہتا اور نواہی سے احتراز کرتا ہے، اللہ کے احکام پر کار بندر رہنا اور منہیات سے اجتناب ہی فرد اور معاشرے کیلئے دنیا و آخرت میں کمال سعادت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾

فَلَنُحِيقَنَّهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ سورہ انخل: ۹۷

جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو گا تو ہم اس کو (دنیا میں) پا کے (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلحہ دیں گے۔

فرشتوں پر ایمان کے ثمرات و فوائد:

۱۔ ان کے خالق عظمت، قوت اور غلبہ کا علم

۲۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی عنایت پر اس کا شکر یہ جبکہ اس نے ان فرشتوں کو بندوں پر مقرر کر رکھا ہے جو ان کی حفاظت کرتے اور ان کے اعمال کو احاطہ تحریر میں لاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مصالح بھی ان کے ذمے ہیں۔

۳۔ اس سے فرشتوں کیلئے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت باحسن و اکمل وجوہ بجا لاتے اور مومنوں کیلئے استغفار کرتے ہیں۔

کتابوں پر ایمان کے ثمرات و فوائد:

۱۔ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خصوصی عنایت کا علم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کیلئے ایک کتاب نازل فرمائی جو انہیں راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ظہور کہ اللہ نے ان کتابوں میں ہرامت کیلئے ان کے مناسب حال شریعت نازل کی اور ان میں سے آخری کتاب قرآن عظیم ہے جو تاقیامت ہر زبان و مکان میں پوری مخلوق کیلئے موزوں ہے۔
۳۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر یہ۔

اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان کے ثمرات:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ خصوصی رحمت و عنایت کا علم جبکہ اس نے ہدایت و ارشاد کیلئے ان کی طرف قبل صد احترام رسول مبعوث فرمائے۔

﴿۲﴾ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کبریٰ پر اس کی شکر گزاری۔

﴿۳﴾ رسولوں کی محبت، ان کی تو قیر اور ان کے لائق شان مدح و ثناء

کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے بندوں کا حنلاصہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی طرف سے پیغام رسانی، اس کے بندوں کی خیر خواہی کا فریضہ: خوبی سرانجام دیا اور اس راستے میں پہنچنے والی تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کیا۔

لیوم آخرت پر ایمان کے ثمرات:

﴿۱﴾ اطاعت باری تعالیٰ کا انتہائی شوق، اس دن کیلئے حصول ثواب

میں رغبت اور اس میں عذاب کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے احتراز۔

﴿۲﴾ دنیا کی نعمتوں اور اس کی ساز و سامان میں سے جسے انسان حاصل

نہیں کر پاتا، مومن کیلئے وجہ تسلی ہے کہ اسے اخروی نعمتوں اور اجر و ثواب کی صورت میں اس کے لغم البدل کی امید ہوتی ہے۔

تقدیر پر ایمان کے ثمرات:

۱۔ اسباب کو کام میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا، کیونکہ سب اور اس کا نتیجہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر پر موقوف ہیں۔

۲۔ طبعی راحت اور دلی اطمینان، کیونکہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ قضائے الہی کا نتیجہ ہے اور ناپسندیدہ امر بھی لامحالہ واقع ہونے والا ہے تو طبیعت ایک گونہ راحت محسوس کرنے لگتی ہے اور دل مطمئن ہو کر اپنے پروردگار کی قضاء پر راضی ہو جاتا ہے، جو شخص تقدیر پر ایمان لے آتا ہے اس سے بڑھ کر آرام دہ زندگی، طبعی راحت اور زیادہ اطمینان کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔

۳۔ مقصود حاصل ہونے پر اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلانہ ہونا، کیونکہ اس نعمت کا حصول جناب باری تعالیٰ کی جانب سے اور تقدیر میں کامیابی و خیر کے اسباب کی بناء پر ہوا ہے، سو انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا اور خوش فہمی سے باز رہتا ہے۔

۲ کسی ناپسندیدہ چیز کے وقوع یا مقصد و مراد فوت ہونے پر بے چینی و اضطراب سے چھٹکارا، کیونکہ وہ اس باری تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور وہ بہر حال نافر ہو کر رہے گا، تو آدمی اس پر صبر کرتا ہے اور اجر و ثواب کا طلب گار ہوتا ہے۔

اور درج ذیل ارشاد باری تعالیٰ میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتْبٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۲۳ لِكَيْلَاتَسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آتَكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ فُخْتَالٍ فَخُوْرٌ﴾ سورۃ الحدید: ۲۳

کوئی مصیبت ملک پر یا خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے، بلا شک یہ اللہ کیلئے آسان ہے۔ تاکہ جو کچھ تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اتر ایانہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شخنی بگھارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔

ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس عقیدہ پر ثابت قدم رکھے،
اس کے فوائد و ثمرات سے بہتر و فرمائے اور اپنے مزید فضل سے نوازے،
اور جب اس نے ہمیں ہدایت مرحمت فرمائی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ہر
طرح کی کچھ روی سے محفوظ رکھے اور اپنی طرف سے رحمت عنایت فرمائے
کہ وہ بے تحاشا عنایت فرمانے والا ہے۔

محمد بن صالح العثیمین

۳۰ رشوآل ۱۴۰۳ھ

فهرست

| | | |
|---|---|---|
| ۳ | تقدیم از سماحتہ اشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازرحمہ اللہ | ۱ |
| ۵ | مقدمہ از مولف | ۲ |

فصل اول

| | | |
|-------|---|---|
| ۹ | اللہ پر ایمان مفصل کا بیان ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات اور وحدائیت باری تعالیٰ پر | ۳ |
| ۹ | ایمان | ۲ |
| ۱۰-۱۱ | آیۃ الکرسی | ۵ |
| ۱۱-۱۲ | بعض اسماء الہی | ۶ |
| ۱۲-۱۳ | اللہ تعالیٰ کی بعض صفات فعلیہ کا بیان کلام، علو، استواء علی العرش اور معیت | ۷ |
| ۲۰ | یہ کہنا کفر اور گمراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنی مخلوق کے ساتھ ہے | ۸ |

| | | |
|----|---|-------|
| ۹ | آسمان دنیا پر نزول، قیامت کے دن بندوں میں فصلے کیلئے تشریف آوری | ۲۲۔۲۱ |
| ۱۰ | ارادہ اور اس کی دو قسمیں: کونیہ اور شرعیہ | ۲۳۔۲۳ |
| ۱۱ | اللہ تعالیٰ کا ہر ارادہ حکمت پر منی ہے، کوئی ہو یا شرعی | ۲۵۔۲۲ |
| ۱۲ | محبت، رضا، کراہت اور غضب | ۲۹۔۲۵ |
| ۱۳ | اللہ کی بعض صفات ذاتیہ (مثلاً وجہ، یہدان، عینان) | ۳۲۔۳۰ |
| ۱۴ | مومنوں کے اپنے ربِ کریم کو بلا ادراک دیکھنے کا ثبوت | ۳۳ |
| ۱۵ | اللہ کی صفات کاملہ ہیں اس لئے اس کی مثالی ناممکن ہے | ۳۳ |
| ۱۶ | اللہ تعالیٰ اونگھ، نیند، ظلم، غلت، عازی، تھکاوٹ اور لاح پاری وغیرہ سے منزہ اور پاک ہے | ۳۵۔۳۲ |
| ۱۷ | صفات باری تعالیٰ کے بارے میں دو عظیم غلطیوں کی نشاندہی (تمثیل، تکلیف) | ۳۵۔۳۷ |
| ۱۸ | جن مسائل میں اللہ اور اس کے رسول نے سکوت فرمایا ہے ہمیں بھی ان کے متعلق سکوت اختیار کرنا چاہئے | ۳۷ |

| | | |
|----|---|----|
| ۳۷ | اس راستے پر چلنا فرض ہے کیونکہ | ۱۹ |
| ۳۷ | اللہ اور اس کے رسول کا کلام صداقت، علم اور حسن بیان میں کامل ہے | ۲۰ |

فصل دوم

| | | |
|----|---|----|
| ۳۸ | ثبت یا متفقی صفات باری پر ایمان لانے میں کتاب و سنت، سلف صالحین اور ائمہ ہدایت کے طرز عمل پر اعتماد کرنا چاہئے | ۲۱ |
| ۳۹ | نصوص کتاب و سنت کو ان کے ظاہری معانی پر محمول کرنا واجب ہے اہل تحریف و تعطیل اور غلو سے اظہار براءت۔ کتاب و سنت میں صرف حق ہے | ۲۲ |
| ۴۰ | کتاب و سنت میں کسی قسم کا کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے | ۲۳ |
| ۴۱ | کتاب و سنت میں تعارض کا دعویٰ کجھ روی کا نتیجہ ہوتا ہے | ۲۴ |
| ۴۱ | کتاب و سنت میں تعارض کا وہم قلت علم، قصور فہم یا قلت تدبر کی وجہ سے ہوتا ہے | ۲۵ |
| ۴۱ | غور و تدبر کے باوجود کتاب و سنت کی کوئی بات سمجھنہ آئے تو | ۲۶ |

فصل سوم

| | | |
|----|---|----|
| ۲۷ | فرشتوں پر ایمان اور ان کے ذمہ بعض اعمال کا بین | ۲۲ |
| ۲۸ | بعض اوقات فرشتے انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں | ۲۳ |
| ۲۹ | البیت المعمور | ۳۷ |

فصل چہارم

| | | |
|----|--|-------|
| ۳۰ | کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے اپنے ہر رسول پر کتاب نازل فرمائی | ۳۸ |
| ۳۱ | جن کتابوں کا ہمیں علم ہے: توراة، انجیل، زبور | ۵۰۔۵۹ |
| ۳۲ | قرآن کریم تمام سابقہ کتابوں کا محافظ و نگراں ہے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے | ۵۱ |
| ۳۳ | سابقہ آسمانی کتابوں میں تحریف، زیادتی اور نقص اور اس کی مثالیں | ۵۱۔۵۳ |

فصل پنجم

| | | |
|----|--|----|
| ۳۴ | رسولوں پر ایمان۔ ان کی بعثت کی حکمت | ۵۲ |
| ۳۵ | پہلے رسول نوح علیہ السلام اور آخری حضرت محمد ﷺ ہیں | ۵۲ |

| | | |
|-------|--|----|
| ۵۵ | اووا العزم رسولوں کا ذکر | ۳۶ |
| ۵۶ | شریعت محمدیہ کی افضیلت و جامیعت | ۳۷ |
| ۶۱-۵۷ | تمام رسول اللہ کی بشری مخلوق اور مکرم بندے تھے ان میں خاص ربوبیت میں کوئی خصوصیت نہ تھی | ۳۸ |
| ۶۲ | شریعت محمدیہ ہی اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کیلئے پسند فرمایا | ۳۹ |
| ۶۳ | جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو قابل سمجھے وہ کافر ہے | ۴۰ |
| ۶۲-۶۳ | جس نے رسالت محمدیہ کے عالمگیر ہونے کا انکار کیا وہ تمام رسولوں کا منکر ہے | ۴۱ |
| ۶۴ | محمد ﷺ خاتم الانبیاء والرسل ہیں، آپ کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا اس دعویٰ کی تصدیق کی وہ کافر ہے | ۴۲ |
| ۶۵ | خلفائے راشدین۔ ان میں سے افضل اور اولین حقدار خلافت | ۴۳ |
| ۶۶ | جزویٰ خصوصیت سے کلی اور مطلق فضیلت ثابت نہیں ہوتی | ۴۴ |
| ۶۷-۶۶ | امت محمدیہ خیر الامم ہے، اس میں درجہ بدرجہ صحابہ کرام، تابعین اور تابعین تابعین کا مقام و مرتبہ ہے | ۴۵ |

| | | |
|-------|---|----|
| ۲۷ | ایک گروہ تا قیامت حق پر قائم رہے گا | ۳۶ |
| ۲۸-۲۹ | مشاجرات صحابہ اجتہاد پر مبنی تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں سوءے | ۳۷ |

ادب سے باز رہنا واجب ہے

فصل ششم

| | | |
|-------|---|----|
| ۷۰-۷۲ | قیامت پر ایمان، بعثت بعد الموت، نامہ ہائے اعمال اور میزان پر ایمان | ۳۸ |
| ۷۷-۷۸ | شفاعت عامد و خاصہ۔ حوض اور اس کی بعض صفات اور پل صراط کا ذکر | ۳۹ |
| ۷۷-۷۸ | جنت، دوزخ پر ایمان اور وہ اس وقت موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گے | ۵۰ |
| ۸۰ | مخصوص لوگوں اور عام اہل ایمان کیلئے جنت کی اور کفار کیلئے دوزخ کی شہادت ہے | ۵۱ |
| ۸۱ | فتنه القبور، اہل ایمان کی ثابت قدمی اور ثواب و عذاب قبر کا ثبوت | ۵۲ |
| ۸۲ | آخرت کے غیبی امور کو دینوی مشاہدات پر قیاس کرنا غلط ہے | ۵۳ |

فصل بیفتم

| | | |
|-------|--|----|
| ۸۳-۸۵ | تقدیر پر ایمان: مراتب تقدیر: علم، کتابت، مشینیت، تخلیق | ۵۴ |
|-------|--|----|

| | | |
|-------|---|----|
| ۸۶ | انسان اپنے اعمال پر قدرت و اختیار رکھتا ہے | ۵۵ |
| ۸۷-۸۹ | انسان کے صاحب اختیار و ارادہ ہونے کی پانچ دلیلیں | ۵۶ |
| ۹۰-۹۳ | نا فرمانی پر تقدیر کو جدت بنانا جائز ہے، اس کے دلائل | ۵۷ |
| ۹۳ | قضاء الہی سراپا خیر ہے۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی | ۵۸ |
| ۹۲-۹۵ | شر مرتضیات میں ہوتا ہے مگر وہ بھی من کل الوجہ نہیں | ۵۹ |

فصل ہشتم

| | | |
|---------|--------------------------------------|----|
| ۹۶ | اس عقیدے کے ثمرات و فوائد | ۲۰ |
| ۹۷ | اللہ پر ایمان کے ثمرات و فوائد | ۲۱ |
| ۹۷ | فرشتوں پر ایمان کے ثمرات و فوائد | ۲۲ |
| ۹۸ | کتب سماویہ پر ایمان کے ثمرات و فوائد | ۲۳ |
| ۹۸ | رسولوں پر ایمان کے ثمرات و فوائد | ۲۴ |
| ۹۹ | یوم آخرت پر ایمان کے ثمرات و فوائد | ۲۵ |
| ۱۰۰-۱۰۱ | تقدیر پر ایمان کے ثمرات و فوائد | ۲۶ |

كتفيف

أهل السنة والجماعة

تأليف

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة

الشيخ حافظ عبد الرشيد اظاهر

رابعه

الشيخ اسد الله عثمان المدنى

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

المملكة العربية السعودية

١٤٣٨ هـ